



سوال

(659) خاندان کی شدت مزاحی کی وجہ سے پرده چھوڑنے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میں ایک پریشان نوجوان لڑکی ہوں۔ لیےے خاندان میں زندگی گزار رہ ہوں جن پر شعبدہ بازی کے خیالات کا غلبہ ہے، میں پرده کی پابند تھی ملکر مجھے سخت حملے اور لپٹنے خاندان کے استہزا کا سامنا کرنا پڑا جو مارنے کی حد کو پہنچ گیا اور مجھے گھر سے نکلنے سے روک دیا گیا، چنانچہ میں پرده ہمار کر ایک چادر پہننے کی طرف مجبور ہو گئی لیکن میرا چہرہ ننگا ہوتا ہے، لہذا میں کیا کروں؟ کیا میں گھر چھوڑ دوں جبکہ انسانی درندوں کی بست کثرت ہے؟ میں فائدے کی امیدوار ہوں۔

الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

یہ سوال دو پہلوؤں کو شامل ہے :

1۔ جس نوجوان لڑکی کے ساتھ یہ بُرا سلوک ہوتا ہے اس کے گھر والوں کا معاملہ، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ یا تو حق سے بے علم ہیں یا وہ اس سے تخبر کا شکار ہیں۔ اور یہ ایک درنگی والا سلوک ہے۔ کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی حق حاصل نہیں، لہذا پرده نہ تو کوئی خامی ہے اور نہ ہی کوئی بری حرکت ہے۔ انسان تو شرعی قوانین کے مطلعے میں آزاد ہے، لہذا اگر تو وہ اس بات سے ناواقف ہیں کہ عورت کے لیے پرده واجب ہے تو ان کے لیے یہ واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے کہ یہ کتاب و سنت سے ایک واجب حکم ہے لیکن اگر وہ لوگ واقف ہونے کے باوجود اعراض واستیخار کرتے ہیں تو پھر یہ بست بڑی نافرمانی ہے، جیسے کسی (شاعر) نے کہا ہے۔

فَإِنْ كُنْتَ لِلتَّدْرِيْ فَنُكَلْ مُصِيْبَة

وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيْبَةَ أَعْظَمْ

اگر تو ناواقف ہے تو یہ (اعلیٰ) ایک مصیبت ہے، اور اگر تو واقف ہے تو توبہ بست بڑی آفت ہے۔"

2۔ دوسرا پہلو: وہ اس نوجوان لڑکی کے حوالے سے ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کے ذمے ہے کہ وہ حتی الامکان اللہ سے ڈرے۔ اگر لپٹنے گھر والوں کو بتائے بغیر اس کے لیے پرده کا استعمال ممکن ہے تو ایسا کر لے، لہذا اگر وہ اسے ماریں اور اسے حباب و پرده ہمارنے پر مجبور کریں تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ عز وجل کے فرمان کی وجہ سے:



مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ أَكْرَهَ وَقِبَلَهُ مُطْسِئٌ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدَرَ عَلَيْهِمْ غَضْبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ۗ ... سُورَةُ الْخَلْقِ

"جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے اپنے ایمان کے بعد، سو اسے اس کے جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اور لیکن جو کفر کے لیے سینہ کھول دے تو ان لوگوں پر اللہ کا بڑا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔"

نیز اللہ عز وجل کا فرمان ہے :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بُخَارٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ ۚ بَلْ كَمْ مَا تَعْذَّلُتُمْ فَلُوْبَحُكُمْ وَكَمَ الَّلَّهُ غَفُورٌ إِذَا جِنِّا ۖ ە ... سُورَةُ الْحَزَابِ

اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔"

بلکہ اسے حتی الوضاع اللہ سے ڈرنا چاہیے اور جب اس کے گھروالے ہی عورت پر پردے کے وجوہ کی حکمت کو نہیں سمجھتے تو انہیں ہم عرض کرتے ہیں کہ حقیقت میں ایمان اور پر یہی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کا فرمانبردار ہو جائے، چاہے وہ اس حکم کی حکمت کو جان سکے یا نہ جان سکے کیونکہ دراصل فرمانبرداری ہی حکمت کا دوسرا نام ہے اللہ عز وجل کا فرمان ہے :

فَمَا كَانَ لِغُوْنِيٍّ وَلَا مُؤْمِنٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخَيْرٌ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّسِيْنًا ۖ ۳۶ ۖ ... سُورَةُ الْحَزَابِ

"اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حعن ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے متعلق میں اختیار ہو، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا واضح گمراہ ہونا۔"

یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہچاگیا کہ حیض والی عورت کا کیسا نہ اداز ہے کہ روزے کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا : اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو ہوتا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں ہوتا تھا، چنانچہ انہوں نے محسن حکم کو ہی حکمت قرار دیا جبکہ پردے کی حکمت تو ویسے بھی ظاہر ہے کیونکہ عورت کی خوبیوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے اور جب فتنہ ہو گا تو گناہ اور بے حیاتی بھی ممکن ہے، اور جب گناہوں اور بے حیاتیوں کا عروج ہو گا تو یہی تباہی اور بر بادی کی بنیاد ہو گا۔ (فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

هذا عندی والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 589

محمد فتویٰ